

2.7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions.

(10)

لاہور شہر سیاست ہی نہیں ثقافت کا بھی قدیم مرکز ہے۔ مغلوں کی ثقافت نے عروج کا زمانہ اس شہر میں دیکھا۔ سکھ ثقافت کا بھی یہی مرکز تھا۔ علم و ادب کی ثقافت بھی اسی شہر کے حصہ میں آئی۔ اہل تصوف کا بھی یہی مرکز تھا۔ تصوف کی مشہور کتاب کشف المحجوب کے مصنف حضرت علی ہجویری المشہور حضرت داتا گنج بخش بھی اسی شہر میں مدفون ہیں۔ انگریزوں کے دور میں بھی لاہور کا فیشن پورے ہندوستان میں رائج ہوتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس شہر کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔

Page 2 of 2

Press and Composition → Translation CE-2018

Lahore ~~city~~ is not only center of politics, but ^{also centre of} culture ~~as well~~. The culture of Mughals also witnessed its peak in this city. It ^{was} also the ^{centre} of Sikh culture. The culture of education and literature also fell in the share of this city. It was also the center of ^{mystics} spiritualists. The author of famous ^{book of} spiritualism "Kash-ah-Maqoob"

Hazrat Ali Hajveri famous as
Hazrat Dاتا Ganj Baksh is also

buried in this city. Even in ^B British
era, the fashion of Lahore city was
followed in whole Hindustan. The importance
of this city did not dwindle even
after the creation of Pakistan.